

 NRSP Microfinance Bank Greenfield Branch Branch		IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. اہم معلومات: نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اس دستاویز کو غور سے پڑھیں۔ آپ دوسرے بینکوں کی طرف سے پیش کردہ مختلف کھاتوں کا موازنہ کر کے اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔												
NRSP Microfinance Bank Limited														
Key Fact Statement - PKR Accounts (Current / Savings)		Account Types & Salient Features :- Account Types & Salient Features : This information is accurate as of the date above. Products/Services and/or its fees may change from time to time after notice by the Bank. Profit on remunerative accounts (if any) will be distributed as per the applicable Profit Sharing Ratio and weightlages announced by the Bank from time to time. Current Accounts will be based on Qard. Saving Accounts and Islamic Term Deposits will be based on Mudarabah. اکاؤنٹ کی ایسام اور نمایاں خصوصیات: اوپر دی گئی معلومات درست ہیں۔ پروڈکٹ / سروسز اور اس کی فیسز وقتاً فوقتاً ٹولس کے بعد تبدیل ہو سکتی ہیں۔ بینک منافع بخشی کھاتوں پر منافع اگر کوئی ہے، بینک فائل منافع کی تقسیم وقتاً فوقتاً اعلان کردہ تناسب کے مطابق ادا کرے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹس قرض پر مبنی ہوں گے۔ سیونگ اکاؤنٹس اور اسلامی ٹرم ڈپازٹس مضاربہ پر مبنی ہوں گے۔ Service Charges. IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find a full list at www.nrspbank.com or visit our branches. مصارف: جانچئے اس اکاؤنٹ کے لیے مرکزی سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل ہیں آپ ہماری ویب سائٹ() یا بینک کی برانچز پر مکمل فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔												
Branch Name: _____														
Date: _____														
Services تفصیلات		Current Deposits		Saving Deposits					Islamic certificates					
		Assan Islamic Current Account	NRSP Behreem Current Account	Islamic Premium Account	Taqir Bachat Account	Bawaqar Bachat Account	Bawaqar Bachat Account -B	Assan Bachat Account	Behreem Amdan Certificate (12 Month(s))	Behreem Amdan Certificate (6 Month(s))	Behreem Amdan Certificate- 1 Year	Behreem Amdan Certificate- 2 Years	Behreem Amdan Certificate- 3 Years	
Currency کرنسی		PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	
Minimum Balance کم سے کم بیلنس		To open کھولنے کے لیے	100	Nil	Nil	Nil	Nil	100	1000	1000	1000	1000	1000	
		To keep رکھنے کے لیے	0	0	5000	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	
Account Maintenance Fee اکاؤنٹ مینٹیننس فیس			Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Last month's declared Profit Rate. (%) گزشتہ ماہ کا ادا شدہ پروفٹ ریت			Nil	Nil	0.01%	7.23%	6.57% 7.23% 6.90% 7.23%	6.57% 7.23% 7.56% 7.89% 8.22%	7.23%	9.86%	9.2% 10.19%	9.86% 10.19% 10.78% 10.52%	11.18% 12.16% 12.49%	11.31% 11.97% 12.29% 12.62% 13.15%
Is Profit Paid on account (Yes/No) Subject to the applicable tax rate. کیا منافع اکاؤنٹ پر ادا کیا جاتا ہے۔ قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے مشروط		No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
Profit Payment Frequency منافع کی ادائیگی کی فوریگاہوں Provide example (Profit is calculated on PKR 100,000) per month. فرض کردہ مثال پر لاکھ کے اوپر دیکھیں ماہ ادا شدہ منافع		Nil	Nil	Monthly	Half Yearly	Monthly/ Quarterly/Half Yearly	*As Per Balance Rs.547.88 Rs.602.66 Rs.630.06 Rs.657.45 Rs.684.85	Half Yearly	Quarterly	Monthly/ Quarterly/ Maturity	Monthly/ Quarterly/ Half Yearly/ Maturity	Monthly/ Yearly/ Maturity	Monthly/ Quarterly/ Half Yearly/ Maturity	
		NA	NA	Rs.1.07	Rs.602.66	Rs.547.88 Rs.575.27 Rs.602.66	Rs.602.66	Rs.602.66	Rs.821.82	Rs.767.03 Rs.849.21	Rs.821.82 Rs.849.21 Rs.898.52 Rs.876.60	Rs.931.39 Rs.1013.57 Rs.1040.97	Rs.942.35 Rs.997.14 Rs.1024.53 Rs.1051.92 Rs.1095.75	
Cash Transaction کیش ٹرانزیکشن	Inter-city	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
	Intra-city	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
	Own ATM withdrawal	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
	Other Bank ATM	Rs.35/-	Rs.35/-	Free	Rs.35/-	Rs.35/-	Rs.35/-	Rs.35/-	NA	NA	NA	NA	NA	
SMS Alerts (Per annum) ایس ایم ایس (پران-سالانہ)		ADC/Digital	Rs.600/- + FED	Rs.600/- + FED	Free	Rs.600/- + FED	Rs.600/- + FED	Rs.600/- + FED	NA	NA	NA	NA	NA	
Debit Cards (Per annum) ڈیبٹ کارڈ (سالانہ)	Silver Card (Issuance Fee)	Rs.800/-	Rs.800/-	Free	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Silver Card (Annual Fee)	Rs.800/-	Rs.800/-	Free	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold (Issuance Fee)	Rs.900/-	Rs.900/-	Free	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold Card (Annual Fee)	Rs.900/-	Rs.900/-	Free	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold Plus (Issuance Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold Plus (Annual Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Goldtoot Card (Issuance Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Goldtoot Card (Annual Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Cheque Book چیک بک	Issuance	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	Free	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	NA	NA	NA	NA	NA	
	Stop Payment (Cheques)	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	Free	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	NA	NA	NA	NA	NA	
	Lost Cheque Book Requisition	Rs.100/-	Rs.100/-	Free	Rs.100/-	Rs.100/-	Rs.100/-	Rs.100/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Clearing کلیرنگ	Local Clearing	Nil	Nil	Free	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
	Same Day	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Free	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
	Inter-city	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Free	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
	OBC	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Free	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	Rs.300/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
Remittance (Local) ریمیتنس (لوکل)		* Issuance of Duplicate/Cancellation/Re-validation PO/DD/BC	Rs.300/-	Rs.300/-	Free	Rs.300/-	Rs.300/-	Rs.300/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Statement of Account گوشوارہ حساب		Annual/Half Yearly/Duplicate	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
Issuance of Balance Certificate بیلنس سرٹیفکیٹ کا اجراء		Rs.200/- Per Certificate	Rs.200/- Per Certificate	Free	Rs.200/- Per Certificate	Rs.200/- Per Certificate	Rs.200/- Per Certificate	Rs.200/- Per Certificate	NA	NA	NA	NA	NA	
Fund Transfer رقم کی منتقلی/فلڈ ٹرانسفر		ADC/Digital	Nil	Nil	Free	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
Fund Transfer رقم کی منتقلی/فلڈ ٹرانسفر	IBFT Above PKR 25000 Per Month	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	Free	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	NA	NA	NA	NA	NA	
	Maximum Charges	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	Free	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	NA	NA	NA	NA	NA	
Balance Enquiry بیلنس کی معلومات	On NRSP Bank's ATM	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
	On 1-Link Member Bank's ATM	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Free	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	On MNET Member Bank's ATM	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Free	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Receipt Printing Charges رسید پرنٹنگ چارجز		On NRSP Bank's ATM & Other Bank's ATM	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Free	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Closure of Account اکاؤنٹ کی بندش		On customer's request	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	NA	NA	NA	NA	
Standing Instructions مستقل ہدایات		Rs.200/- Per Instrument	Rs.200/- Per Instrument	Free	Rs.200/- Per Instrument	Rs.200/- Per Instrument	Rs.200/- Per Instrument	Rs.200/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-102 9:00 AM to 4:30 PM Mon-Fri		Rs.50/-	Rs.50/-	Free	Rs.50/-	Rs.50/-	Rs.50/-	Rs.50/-	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-103 9:00 AM to 2:00 PM Mon-Fri		Rs.220/-	Rs.220/-	Free	Rs.220/-	Rs.220/-	Rs.220/-	Rs.220/-	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-103 2:00 AM to 3:30 PM Mon-Fri		Rs.330/-	Rs.330/-	Free	Rs.330/-	Rs.330/-	Rs.330/-	Rs.330/-	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-103 3:30 AM to 4:30 PM Mon-Fri		Rs.550/-	Rs.550/-	Free	Rs.550/-	Rs.550/-	Rs.550/-	Rs.550/-	NA	NA	NA	NA	NA	

You Must Know

آپ کی لازمی معلومات کے لیے

Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and Bank's internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details from branch representative or by calling our Helpline: +92 62-111-011-011

Cheque Bounce: Dishonoring of cheques is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence. In this regard Section 489-F of Pakistan Penal Code (PPC) applies, "Dishonestly issuing a cheque": Whoever dishonestly issues a cheque towards repayment of financing or fulfilment of an obligation which is dishonored on presentation, shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine, or both.

Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, T-Pins, Cheques, e-banking usernames, passwords; other personal information, etc. is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. The State Bank of Pakistan or your bank will never Call/ SMS/ I/ Mail/ Email to ask for customer's confidential details and other sensitive information related to bank account.

Customer must be aware of this fact that sharing such information with anyone might cause financial fraud. Similarly, customers must be cautious of phishing emails asking the customer to click on link and for instance, change the password of his/ her bank account.

Record updating: Always keep profiles/records updated with the Bank to avoid missing any significant communication. You can contact/ visit your nearest branch for record updating or you may call at our 24/7 call center by dialing +92 62-111-011-011 from your number registered with your account.

What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be marked as dormant. If your account becomes dormant, you will not be able to perform any debit/withdrawal transaction. To reactivate your account, you must visit your NRSP Bank's branch with an original valid identity document.

Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last ten years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact your parent/concerned branch. You will have to fulfil all required regulatory requirements that the Bank might require to proceed further.

Closing this account: In order to close your account, please visit your branch along with your original valid identity document for account closure. The Bank shall perform mandatory requirements for account closure. Any products, services or facilities linked with your account shall automatically be cancelled/ deactivated subsequent to the account closure.

Expired Identity Document: Once your submitted ID document has reached to its expiry, you shall be requested to submit a new valid ID document immediately to avail banking service.

How can you get assistance or make a complaint?

You can also register your complaint at "complaints@nrspbank.com" or by calling at bank's Toll free # 08000-6777 or UAN # 062- 111-011-011 or by visiting your NRSPMBL branch.

NRSP Microfinance Bank Limited, Near Baghdad Railway Station, University Road, Bahawalpur 63100, Pakistan. +92-62-2285126 +92-62-2280051

complaints@nrspbank.com: UAN:062-111-011-011 Toll Free: 080006777

Alternate Number: 051-2650004. If you are not satisfied with our response, you may contact:

The Director,
Consumer Protection Department,
SBP 5th Floor, SBP Main Building,
I. I Chundrigar Road,
Karachi.

UAN Number: 021-111-727-273
Fax Number: 021-99221160 & 99221154
Email Address: cpd.helpdesk@sbp.org.pk

اکاؤنٹ کھولنے کی شرائط: اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ریگو لیٹری ہدایات اور بینکوں کی داخلی پالیسیوں کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔

ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات کی فراہمی شامل ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی معلومات کی وقتاً فوقتاً ضرورت پیش آسکتی ہے۔

برائے مہربانی آپ مزید مفصل معلومات کے لیے ہماری کسی بھی برانچ تشریف لا سکتے ہیں۔

اگر آپ اس میں 24 گھنٹے فون بینکنگ +92-62-2285126-011-011 پر کال کر سکتے ہیں۔

چیک باؤنس : چیک کی قبولیت سے انکار 1860 کے پاکستان بینک کوڈ سیکشن 489-F اور فنانس انسٹیٹوشن (ریگولیٹری آف وائٹنس 2001 کے سیکشن 20 کے تحت ایک مجرمانہ عمل ہے) اور اس پر پاکستان میں فوجداری مقدمے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیک لکھنا چاہیے۔

محفوظ نگہبان: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی ، والے آلات کی محفوظ تحویل جیسے ATM کارڈز، پین، پی، چیکس ، ای بینکنگ یو آر ڈی ، پاسورڈ ، دیگر ذاتی معلومات (جیسے تاریخ پیدائش ، ماں کا نام وغیرہ) آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسٹمر کی جانب سے سیکیورٹی کی غلطی کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے

SBP/NRSP BANK کی بھی کال ، ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے آپ کی حساس معلومات (پاس ورڈ ، ڈیٹ کرڈ #، پین ، سی این ای آئی سی ، CVV، OTP ، طلب نہیں کرے گا۔ برائے مہربانی کسی سے بھی اس طرح کی معلومات کا تبادلہ نہ کریں۔

ریکارڈ اپڈیٹنگ: کسی بھی اہم معلومات سے محروم ہونے سے بچنے کے لیے ہمیشہ بینک کے ساتھ پروفاٹلز / ریکارڈ کو آپ ڈیٹ رکھیں آپ اپنی معلومات کو آپ ڈیٹ کرنے کے لیے متعلقہ NRSP BANK برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا NRSP BANK کے 24 اورز بینکنگ +92-62-2285126-011-011 پر کال کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اکاؤنٹ اگر 12 ماہ تک غیر فعال رہتا ہے تو اسے معطل / غیر فعال تصور کیا جائیگا۔

اگر آپ اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا تو آپ اکاؤنٹ کے دوبارہ سے ایکٹیوٹ ہونے تک ڈیٹ ٹرانزیکشنز کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ سے ایکٹیوٹ کرنے کے لیے جس ان آر ایس پی بینک کی برانچ میں اکاؤنٹ کھلویا تھا آپ کو وہاں جانا ہو گا تا کہ ریکارڈ کو آپ ڈیٹ اور آپ کے اکاؤنٹ کو ری ایکٹیوٹ کیا جا سکے۔

غیردعویٰ شدہ ڈپازٹس۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 31 کی شرائط کے تحت وہ تمام ڈپازٹس جنہیں گزشتہ دس سالوں کے دوران آپریٹ نہیں کیا گیا، سوائے اس ڈپازٹ کے جو کسی نا بالغ یا حکومت یا عدالت عظمیٰ کے نام ہو، قانون کی دفعات کے مطابق شرائط پوری کرنے کے بعد، متفقہ بینکوں کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کیے گئے ڈپازٹس کے سلسلے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔

برائے مہربانی مزید معلومات کے لیے جس ان آر ایس پی بینک برانچ میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلویا تھا وہاں کے برانچ منیجر/ آپریشن منیجر سے رابطہ کریں۔

اس اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے برائے مہربانی بینک کے داخلی طریقہ کار پر عمل کریں، برائے مہربانی رہنمائی کیلئے جس ان آر ایس پی بینک کی برانچ میں آپ نے اکاؤنٹ کھلویا تھا وہاں کے برانچ منیجر/ آپریشن منیجر سے رابطہ کریں۔

برائے مہربانی نوٹ فرمائیے: بیس اکاؤنٹ کے مطابق ڈپازٹس اکاؤنٹس کی فیکٹ شیٹ میں منتخب کردہ ڈپازٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے اسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کی پیروی کی جائے گی۔

ایکسیٹار شناختی کارڈ/ دستاویزات: ایک بار آپ کے جمع کرائی گئی شناختی کارڈ/ دستاویزات کی میعاد ختم ہو جائے تو آپ کو بینکنگ سروس حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر ایک نئے شناختی کارڈ/ دستاویزات کی کاپی جمع کرنا ہو گی۔

این آر ایس پی مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ

ہیڈ آفس نزد بغداد ریلوے سٹیشن یونیورسٹی روڈ

ہیڈ آفس 63100 پاکستان۔

+92-62-2285126+92-62-2280051

فری کال 06777-0800

متبادل نمبر: 051-2650004-051

Complaint@nrspbank.com | UAN: 062-111-011-011

اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہ ہوں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

ڈائریکٹر،

کنزیومر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ

ایس پی 5th فلوور مین بلڈنگ I.I چندریگر روڈ،

کراچی۔

UAN: 021-111-727-273

فیکس نمبر: 99221160-021

ای میل: cpd.helpdesk@sbp.org.pk

Customer Name	Date		
کسٹمر کا نام	تاریخ		
Product Chosed	Contact No		
پروڈکٹ کا انتخاب	رابطہ نمبر		
Mandate of Account (Single/ joint/ either or survivor)	Mobile No		
اکاؤنٹ کا مینڈیٹ (سنگل/جوائنٹ/ لواحقین یا دیگر	موبائل نمبر		
Address			
پتہ			
Customer's Signature	Signatuer Verified		
کسٹمر کے دستخط	تصدیق کنندہ		

 NRSP Microfinance Bank		NRSP Microfinance Bank Limited Key Fact Statement - PKR Accounts (Fixed)						
Branch Name: _____								
Date: _____								
Premature/ Early Encashment/Withdrawal Fee قبل از وقت/جلد ادائیگی پر قیس								
IC,s	Within One Month	1-3 Months	3-6 Months	6-12 Months	1-2 Years	2-3 Years	3-4 Years	5 Years
3 Months	No Profit	Saving Account Rate						
6 Months	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC					
1 Year Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC				
1 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC				
1 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC				
2 Years Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Quarterly IC			
2 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Half Yearly IC			
2 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Maturity IC			
3 Year Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Quarterly IC	2 Year Quarterly IC		
3 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Half Yearly IC	2 Year Half Yearly IC		
3 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Maturity IC	2 Year Maturity IC		
5 Year Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Quarterly IC	2 Year Quarterly IC	3 Year Quarterly IC	3 Year Quarterly IC
5 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Half Yearly IC	2 Year Half Yearly IC	3 Year Half Yearly IC	3 Year Half Yearly IC
5 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Maturity IC	2 Year Maturity IC	3 Year Maturity IC	3 Year Maturity IC
Customer Name کسٹمر کا نام					Date تاریخ			
Product Chooosed پروڈکٹ کا انتخاب					Contact No رابطہ نمبر			
Mandate of Account (Single/ joint/ either or survivor. اکاؤنٹ کا مینڈیٹ)						Mobile No موبائل نمبر		
Address پتہ								
Customer's Signature کسٹمر کے دستخط				Signatuer Verified تصدیق کنندہ				